

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پر دوسری برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے ٹوٹ ہیں، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت

CSS - 2019 Translation

Pakistan is ^{determined} optimistic for peace in Afghanistan because peace in Afghanistan is very important for Pakistan. In historical context, Pakistan and ^{States} Afghanistan due to neighborhood and ^{being} Islamic state are glued in history, culture and values. These relations are unbreakable; both depend on each other and ~~both could not~~ ^{neither can} stay alone. From the first day, ^{Pakistan's} stance has been that Afghan cause should be solved through political solution. China also supported this stance. In this scenario, China says that Afghan cause ^{can be solved} by peace dialogues by Afghan incumbents. Pakistan and China strategically attended.

3-5
10